

موسم کے بارے میں بات کرنا

Parlare del tempo

 Espen Stranger-Johannessen

 Ognjen Drageljević

 Yasir Tayyab

 2

 اردو / Italiano

“سرديوں كے دن آرہے ہيں۔ درجہ حرارت كچھ ہے؟”

...

“Comincia a fare freddo. Che temperatura c'è?”

” درجہ حرارت نو ڈگری ہے۔ ابھی تک موسم خزاں ہی ہے، لیکن
جلد ہی موسم سرہ آجئے گا۔”

...

“Nove gradi. È ancora autunno, ma presto
sarà inverno.”

“مجھے موسم بھر کا انتظار ہے، لیکن میں موسم گرہ کو زیدہ
پسند کرتا ہوں، جب یہ اچھا اور گرم ہوتا ہے۔”

...

“Non vedo l’ora che arrivi la primavera, ma
preferisco l’estate, quando il tempo è bello e
caldo.”

“مجھے سردی ۛ موسم بُرا نہیں لگتا۔ لیکن ہرش اور ہوا مجھے
پسند نہیں ہے۔”

...

“Non m'importa del freddo. Ma pioggia e
vento non mi piacciono.”

“ان سیدھ بدلوں کو دیکھو۔ کل ہرش ہوگی۔ بہت تیز ہوائیں بھی
چلیں گی۔ شدید طوفان آئے گا۔”

...

“Guarda quelle nuvole scure. Domani pioverà.
E ci sarà anche tanto vento. Forse ci sarà un
temporale.”

“میں امید کرڈ ہوں ایسے نہ ہو۔ مجھے اصل میں خراب موسم
پسند نہیں ہے، خاص طور پر ڈبل کی گرج اور آسہنی بجلی۔
مجھے ڈر ہوتا ہے کہ آسہنی بجلی مجھ پر نہ گر جائے۔”

...

“Spero di no. Non mi piace il brutto tempo,
specialmente i tuoni e i fulmini. Ho paura di
essere colpito da un fulmine.”





LIDA Stories

lidastories.net

موسم کے بارے میں بات کرنا

Parlare del tempo

 Espen Stranger-Johannessen

 Ognjen Drageljević

 Yasir Tayyab (ur), Andrea Ciasca Marra (it)

